

Urdu Paragraph

ہر دور اپنے ساتھ بہت سے ایسے معاملات بھی لے کر آتا ہے جو کسی کی پسند کے نہیں ہوتے مگر انہیں قبول کرنا ہی پڑتا ہے۔ بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ قدرت شاید ہمیں آزمانے کی خاطر ایسا بہت کچھ ہمارے سامنے رکھتی ہے جو ہمارے مطلب کا نہیں ہوتا بلکہ اس سے ہمارا کوئی تعلق ہی نہیں ہوتا مگر پھر بھی اسے زندگی کا حصہ بناتے ہوئے چلنا پڑتا ہے۔ آج بھی ایسا ہی چل رہا ہے۔ ہر صدی اپنے ساتھ ایسی تبدیلیاں لاتی رہی ہے جو گزشتہ صدیوں کے مقابلے میں بالکل نئی تھیں۔ فطری علوم و فنون کی ترقی نے انسان کو ایسا بہت کچھ دیا ہے جسے علمی و معاشی عمل کا کچرا قرار دیا جا سکتا ہے۔ قدرت ہمیں پھل دیتی ہے تو ساتھ ہی ساتھ اس بات کا پابند کرتی ہے کہ اس کے چھلکوں کو ڈھنگ سے ٹھکانے لگائیں۔ اگر ایسا نہ کیا جائے تو ملک کی غلاظت بڑھتی ہے۔

Translation:

Each era brings ^{along many} with itself such circumstances which are even ^{be} disliked by every one but they have to accept ^{ed} them. Sometimes, it happens that nature brings such things in front of us which we do not mean for. However, we have to move forward with these circumstances.

which are not meant for us

The same is going on in these days. Each century brings with itself such changes which are contemporary in terms of previous one. Knowledge and skills given by the nature to human beings have such importance that in front of this the knowledge of economics can be regarded as a trash. When nature gives us fruits then it binds us to put aside peels in careful manner. If such is not done, then there is spread of garbage in the country.

then the environmental pollution increases

translate carefully dont kip urdu words
need improvement 5/10